

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ

شُكْرُ هِيَ اللَّهُ كَا جَس نِي دُور كِيَا هِي سِي غَم؁ بِلَا شِبْهِ هَا رَا رَب هِيَ مَعَا فَرْمَا نِي وَآلَا اُور قَدْر دَا ن -

فَاطِر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

سَبْ خُوبِي اللَّهُ كُو هِيَ جَس نِي بِنَا نِكَا لِي آسْمَا نِ وَزَمِين؁

جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

جَس نِي شُهْرَا لِي (مُتْرَكِي) فَرَشْتِي بِيغَام لَانِي وَآلِي؁ جِكِي پَر هِي دُودُو اُور تِين تِين اُور چَا رِ چَا رِ -

يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ

(دُو) بَرُ هَا تَا (اَضَا نِكْرَا) هِيَ بِي دَا نِش مِي سِ جُو چَا هِيَ -

إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١)

بِي شِكِ اللَّهُ هَرِ چِي ز كَر سَكْتَا هِيَ -

مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا

جُو كُھُول دِي اللَّهُ لُؤْ گُؤ نِ پَر كِچھ مِہر (رِ مَت)؁ تُو كُو نِي نِي سِ اِسْكُور وِ كِنِي وَآلَا -

وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ

اُور جُو رُوك رَكِي تُو كُو نِي نِي سِ اِسْكُو بِي جِنِي وَآلَا اِسْكِي سِوَا؁

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٢)

اُور وِ هِي هِيَ زَبْر دِسْتِ حَكْمَتُؤ وَآلَا -

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

لُؤْ گُؤ! يَا دِكُرُوا اِحْسَا نِ اللَّهُ كَا اِپِنِي اُورِ؁

هَلْ مِنْ خَالِقِ غَيْرِ اللَّهِ

کوئی ہے بنانے والا اللہ کے سوا؟

يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

روزی دیتا تم کو آسمان اور زمین سے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

کوئی حاکم نہیں مگر وہ۔

فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ (۳)

پھر کہاں سے اُلٹے (تم بہکائے) جاتے ہو؟

وَإِنْ يَكْذِبُونَ فَقَدْ كَذَّبَتْ رَسُولٌ مِّن قَبْلِكَ

اور اگر تجھ کو جھٹلائیں تو جھٹلائے گئے کتنے رسول تجھ سے پہلے۔

وَالَى اللَّهُ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (۴)

اور اللہ تک پہنچتے ہیں سب کام۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ

لوگو! بیشک وعدہ اللہ کا ٹھیک (حق) ہے،

فَلَا تُغْرَبْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا

سو نہ بہکائے تم کو دنیا کا جینا۔

وَلَا يَغُرَّتْكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ (۵)

اور نہ دغا دے تم کو اللہ کے نام سے وہ دغا باز۔

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا

تحقیق (حقیقت میں) شیطان تمہارا دشمن ہے، سو تم سمجھ رکھو اس کو دشمن۔

إِنَّمَا يَدْعُو حَزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ (۶)

وہ تو بلاتا ہے اپنے گروہ کو اسی واسطے کہ ہوں دوزخ والوں میں۔

الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ

جو منکر ہوئے انکو سخت مار ہے،

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ (۷)

اور جو یقین لائے اور کئے بھلے کام، انکو ہے معافی اور نیک (اجر) بڑا۔

أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا

بھلا ایک شخص، کہ جعلی سمجھائی (خوشنما دکھائی) اسکو اسکے کام کی برائی، پھر دیکھا اس نے اسکو بھلا (اچھا)۔

فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ

کیونکہ اللہ بھلا کا تا ہے جسکو چاہے، اور سمجھاتا ہے جسکو چاہے۔

وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبُ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ

سو تیرا جی نہ جاتا رہے (کھلے تیری جان) اُن پر پچھتا پچھتا (حسرت و غم کر) کر۔

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (۸)

اللہ کو سب معلوم ہے جو کرتے ہیں۔

وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَّاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا

اور اللہ ہے جس نے چلائیں ہیں باویں (ہوائیں)، پھر اُبھارتیاں ہیں بدلی (بادل)،

فَسُقْنَاهُ إِلَى بَدَدٍ مَيِّتٍ

پھر ہا تک لے گئے ہم اسکو ایک مر گئے دیس (مردہ زمین) کو،

فَأُحْيَيْنَاهُ فِي الْأَرْضِ بَعْدَ مَوْتِهَا

پھر چلائی (زندہ کی) ہم نے اس سے زمین اسکے مر گئے پیچھے (مرنے کے بعد)۔

كَذَلِكَ النُّشُورُ (۹)

اسی طرح ہے جی اٹھنا۔

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا

جسکو چاہیے عزت، تو اللہ کی ہے عزت ساری۔

إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ

اسکی طرف چڑھتا ہے کلام ستھرا اور کام نیک، اسکو اٹھا لیتا ہے۔

وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ

اور جو لوگ داؤ میں ہیں برائیوں کے اُنکو سخت مار ہے۔

وَمَكْرُ أَوْلِيكَ هُوَ يَبُورُ (۱۰)

اور انکو داؤ ہے ٹوٹے (خسارہ) کا۔

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِّنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا

اور اللہ نے تم کو بنایا (پیدا کیا) مٹی سے، پھر بوند پانی سے، پھر بنایا تم کو جوڑے جوڑے۔

وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ

اور نہ پیٹ رہتا ہے کسی مادہ کو اور نہ وہ جنتی ہے بن خبرا سکے۔

وَمَا يُعَمِّرُ مِنْ مَّعْمَرٍ وَلَا يُنْقِصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ

اور نہ عمر پاتا ہے کوئی بڑی عمر والا اور نہ گھٹتی ہے کسی کی عمر مگر لکھا ہے کتاب میں۔

إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (۱۱)

یہ اللہ پر آسان ہے۔

وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ

اور برابر نہیں دو دریا،

هَذَا عَذَبٌ فُرَاتٌ سَائِعٌ شَرَابُهُ

یہ (ایک) بیٹھا ہے پیاس بجھاتا ہے، پینے میں رچتا،

وَهَذَا مِلْحٌ أَجَاجٌ

اور یہ (دوسرا) کھارا کڑوا۔

وَمِنْ كُلِّ تَاكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حَبِيَّةً تَلْبَسُونَهَا

اور دونوں میں سے کھاتے ہو گوشت تازہ، اور نکالتے ہو گہنا (سامان زینت) جسکو پہنتے ہو۔

وَتَرَى الْفَلَكَ فِيهِ مَوَآخِرَ لِنَبْتَعُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (۱۲)

اور تو دیکھے جہاز، اس میں چلتے ہیں پھاڑتے (چیرتے)، تا (کہ) تلاش کرو اسکے فضل سے، اور شاید تم حق مانو۔

يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ

رات پیٹتا (داخل کرتا) ہے دن میں اور دن پیٹتا (داخل کرتا) ہے رات میں،

وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى

اور کام لگایا سورج اور چاند، ہر ایک چلتا ہے ایک ٹھہرائے وعدہ پر (وقت مقرر تک)۔

ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ

یہ اللہ ہے تمہارا رب، اسی کی بادشاہی ہے،

وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ (۱۳)

اور جن کو تم پکارتے ہو اسکے سوا مالک نہیں ایک چھلکے کے۔

إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ

اگر تم انکو پکارو سنیں نہیں تمہاری پکار۔

وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ

اور اگر سنیں پہنچیں نہیں تمہارے کام پر۔

وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بَشِيرِكُمْ

اور دن قیامت کے منکر ہوں گے تمہارے شریک ٹھہرانے سے۔

وَلَا يُبْنِيكَ مِثْلُ خَبِيرٍ (۱۴)

اور کوئی نہ بتائے گا تجھ کو، جیسا بتادے خبر رکھنے والا۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ

لوگو! تم ہو محتاج اللہ کی طرف۔

وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (۱۵)

اور اللہ وہی ہے بے پرواہ سب خوبیوں سراہا۔

إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ (۱۶)

اگر چاہے تم کو لے جائے اور لے آئے ایک نئی خلقت۔

وَمَا ذَلِكُمْ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ (۱۷)

اور یہ (کرتا) اللہ پر مشکل نہیں۔

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى

اور نہ اٹھائے گا کوئی اٹھانے والا، بوجھ دوسرے کا،

وَأِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ

اور اگر پکارے کوئی بوجھوں مرتا (لدا ہوا شخص) اپنا بوجھ بٹانے کو کوئی نہ اٹھائے اس میں سے کچھ، اگرچہ ہوناتے والا۔

إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ

تو تو ڈر سنا دیتا ہے انکو جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے، اور کھڑی رکھتے ہیں نماز۔

وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ

اور جو کوئی سنورے گا، تو یہی سنورے گا اپنے بھلے کو،

وَأِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ (۱۸)

اور اللہ کی طرف ہے پھر (لوٹ) جانا۔

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ (۱۹)

اور برابر نہیں اندھا اور دیکھتا۔

وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ (۲۰)

اور نہ اندھیرا اور اُجالا۔

وَلَا الظُّلُّ وَلَا الْحَرُورُ (۲۱)

اور نہ سایہ اور نہ لون (دھوپ کی تپش)۔

وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ

اور برابر نہیں جیتے (زندے اور) نہ مردے۔

إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ

اور اللہ سنا تا ہے جس کو چاہے۔

وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ (۲۲)

اور تو نہیں سنانے والا قبر میں پڑوں کو۔

إِنَّ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ (۲۳)

تو تو یہی ہے ڈر کی خبر سنانے والا۔

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا

ہم نے بھیجا ہے تجھ کو سچا (حق) دین دے کر، اور خوشی اور ڈر سنانے والا۔

وَأَن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ (۲۴)

اور کوئی فرقہ (امت) نہیں، جس میں نہیں ہو چکا کوئی ڈرانے والا۔

وَأَن يُكذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ

اور اگر وہ تجھ کو جھٹلائیں، تو آگے جھٹلا چکے ہیں ان سے اگلے (پہلے)۔

جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالْزُبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ (۲۵)

پہنچے ان پاس رسول انکے، لے کر کھلی باتیں اور ورق (یعنی) اور چمکتی (روشن ہدایات والی) کتاب۔

ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ (۲۶)

پھر پکڑا میں نے منکروں کو، تو کیسا ہوا بگاڑ میرا؟

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً

تُو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے اتارا آسمان سے پانی۔

فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا

پھر ہم نے نکالے اس سے میوے طرح طرح انکے رنگ۔

وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ (۲۷)

اور پہاڑوں میں گھاٹیاں ہیں سفید اور سرخ، طرح طرح انکے رنگ، اور بھنگ کالے (گہرے سیاہ)۔

وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَأَلْبَانِ الْبُحَيْرِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ

اور آدمیوں میں اور چوپایوں میں کئی رنگ کے ہیں اسی طرح۔

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

اللہ سے ڈرتے وہی ہیں اسکے بندوں میں جن کو سمجھ ہے۔

إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ (۲۸)

تحقیق (بلاشبہ) اللہ زبردست ہے بخشنے والا۔

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ

جو لوگ پڑھتے ہیں کتاب اللہ کی، اور سیدھی (قائم) کرتے ہیں نماز،

وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً

اور خرچ کیا کچھ ہمارا دیا چھپے اور کھلے،

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ (۲۹)

امیدوار ہیں ایک بیوپار کے، جو کبھی نہ ٹوٹے (خسارہ پائے)۔

لِيُؤْفِيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّنْ فَضْلِهِ

تا (کہ) پورے دے انکو نیک (اجر) اُنکے، اور بڑھتی (زیادہ) دے اپنے فضل سے۔

إِنَّهُ عَفُورٌ شَكُورٌ (۳۰)

تحقیق (بلاشبہ) وہ ہے بخشنے والا قبول کرتا۔

وَالَّذِي أُوحِيَنا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ

اور جو ہم نے تجھ پر اتاری کتاب، وہی ٹھیک (حق) ہے سچا (تصدیق) کرتی آپ سے اگلی (پہلی) کو۔

إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ (۳۱)

مقرر (بیشک) اللہ اپنے بندوں سے خبر رکھتا ہے دیکھتا۔

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا

پھر ہم نے وارث کئے کتاب کے وہ، جو چنے ہم نے اپنے بندوں میں سے۔

فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ

پھر کوئی ان میں برا کرتا ہے اپنی جان کا۔

وَمِنْهُمْ مَّقْتَصِدٌ

اور کوئی ان میں ہے بچ کی چال پر (میان رو)،

وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ إِذِنَ اللَّهُ

اور کوئی ان میں ہے کہ آگے بڑھ گیا، لے کر خوبیاں اللہ کے حکم سے۔

ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ (۳۲)

یہی ہے بڑی بزرگی۔

جَنَّاتٌ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا

باغ ہیں بستے کے، جن میں جائیں گے وہاں گہنا پہنائے گا انکو نگن سونے کے اور موتی۔

وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ (۳۳)

اور انکی پوشاک وہاں ریشمی ہے۔

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ

اور کہیں گے شکر اللہ کا، جس نے دور کیا ہم سے غم۔

إِنَّ رَبَّنَا لَعَفُورٌ شَكُورٌ (۳۴)

بیشک ہمارا رب بخشتا ہے قبول کرتا۔

الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ

جس نے اُتارا (ٹھہرایا) ہم کو رہنے کے (ابدی) گھر میں، اپنے فضل سے۔

لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ (۳۵)

نہ پہنچے اس میں ہم کو کوئی مشقت، اور نہ پہنچے ہم کو اس میں تھکنا۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ

اور جو منکر ہیں، انکو ہے آگ دوزخ کی۔

لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فِيمَوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِّنْ عَذَابِهَا

نہ ان پر افتدیر پہنچتی ہے کہ مر جائیں اور نہ ان میں ہلکی ہوتی ہے وہاں کی کچھ کلفت (تکلیف)۔

كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ (۳۶)

یہی سزا دیتے ہیں ہم ہرناشکر کو۔

وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا

اور وہ چلاتے ہیں اس میں،

رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ

اے رب! ہم کو نکال، ہم کچھ بھلا کام کریں، وہ نہیں جو کرتے تھے۔

أَوْ لِمَ نَعْمَرُّكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ

کیا ہم نے عمر نہ دی تھی تم کو جتنے میں سوچ لے جس کو سوچنا ہو؟ اور پہنچا تم کو ڈر سنانے والا۔

فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ (۳۷)

اب چکھو کہ کوئی نہیں گنہگاروں کا مددگار۔

إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

اللہ بھید جاننے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔

إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (۳۸)

اس کو خوب معلوم ہے، جو بات ہے دلوں میں۔

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ

وہی ہے جس نے کیا تم کو قائم مقام (خلیفہ) زمین میں،

فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ

پھر جو کوئی ناشکری کرے تو اس پر پڑے اسکی ناشکری۔

وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا

اور منکروں کو نہ بڑھے گا انکے انکار سے، اُنکے رب کے آگے مگر بیزاری۔

وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا (۳۹)

اور منکروں کو نہ بڑھے گا انکے انکار سے، مگر نقصان۔

قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ

تُو کہہ، بھلا دیکھو تو! اپنے شریک جنکو پکارتے ہو اللہ کے سوا۔

أُرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ

دکھاؤ تو مجھ کو، کیا بنایا انہوں نے زمین میں؟

أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ

یا کچھ ان کا سا جھا ہے آسمانوں میں؟

أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْهُ

یا ہم نے دی ہے انکو کوئی کتاب، سو یہ سندر رکھتے ہیں اس کی؟

بَلْ إِنْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا (۴۰)

کوئی نہیں پر جو بتاتے ہیں گنہگار ایک دوسرے کو، سب فریب ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يُمَسِّكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا

تحقیق اللہ تھام رہا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، کہ ٹل (مرک) نہ جائیں۔

وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهِ

اور اگر ٹل (مرک) جائیں تو کوئی نہ تھام سکے انکو اسکے سوا۔

إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا (۱)

وہ ہے تحمل والا بخشتا۔

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ

اور قسم کھاتے تھے اللہ کی تاکید کی (سخت) قسمیں اپنی،

لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ

اگر آئے ان پاس کوئی ڈرسانے والا، البتہ بہتر راہ چلیں گے اور کسی ایک امت سے۔

فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا (۲)

پھر جب آیا ان پاس ڈرسانے والا، اور زیادہ ہوا انکا بدکنا،

اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ

غرور کرنا ملک میں، اور داؤ کرنا برے کام کا۔

وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئِ إِلَّا بِأَهْلِهِ

اور برائی کا داؤ اُلٹے گا اسی داؤ والوں پر۔

فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ

پھر وہی راہ دیکھتے ہیں اگلوں کے دستور کی۔

فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا

سو تو نہ پائے گا اللہ کا دستور (سنت) بدلتا۔

وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا (۳)

اور نہ پائے گا اللہ کا دستور (سنت) ٹلتا۔

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ

کیا پھرے نہیں ملک میں کہ دیکھیں آخر کیا ہوا انکا جو ان سے پہلے تھے؟

وَكَاثُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً

اور تھے ان سے سخت زور میں۔

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ

اور اللہ وہ نہیں جسکو تھکائے کوئی چیز آسمانوں میں نہ زمین میں۔

إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا (۴۴)

وہی ہے سب جانتا کر سکتا۔

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرهَا مِنْ دَابَّةٍ

اور (اگر کہیں) پکڑ کرے اللہ لوگوں کو انکی کمائی (کرتوتوں) پر، نہ چھوڑے زمین کی پیچھے پر ایک ہلنے چلنے والا،

وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى

پر (وہ) انکو ڈھیل (مہلت) دیتا ہے ایک ٹھہرے ہوئے وعدہ (وقت مقرر) تک۔

فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا (۴۵)

پھر جب آیا انکا وعدہ (وقت مقرر)، تو اللہ کی نگاہ میں ہیں اسکے سب بندے۔

